

11 جنوری 2018

## اسیٹ منیجمنٹ کی عالمی طور پر تسلیم شدہ تعلیمی قابلیتیں اب برامپٹن میں پیش کی جاتی ہیں

برامپٹن، آن - عالمی طور پر تسلیم شدہ تعلیم کی پیشکش کرنے والے کینیڈا کے پہلے ایسٹ منیجمنٹ ٹریننگ اینڈ انوویشن سنٹر کے طور پر، سٹی آف برامپٹن بلدیاتی عملے کو جامع تربیت فراہم کرنے پر خوش ہے، تاکہ انہیں بین الاقوامی طور پر بہترین مانے گئے طریقہ کار کو اپنانے اور نئے ایسٹ منیجمنٹ کے انتظامات کی منصوبہ بندی کے تقاضوں کو پورا کرنے میں مدد دی جا سکے۔

1 جنوری 2018 سے مؤثر، [اونٹاریو ریگولیشن 2017/588](#): ایسٹ منیجمنٹ پلاننگ فار میونسپل انفراسٹرکچر کا تقاضہ ہے کہ ہر میونسپلٹی 1 جولائی 2019 تک حکمت عملی کے مطابق اثاثہ جات کے انتظام کی پالیسی اور 1 جولائی 2024 تک اثاثہ جات کے انتظام کا مرحلہ وار منصوبہ تیار کرے۔

پچھلے سال، سٹی آف برامپٹن نے ایسٹ منیجمنٹ اکیڈمی (AMA) کے ساتھ اشتراک میں ایسٹ منیجمنٹ ٹریننگ اینڈ انوویشن سنٹر کا آغاز کیا۔ انسٹیٹیوٹ آف ایسٹ منیجمنٹ (IAM)، اثاثہ جات کے انتظام کے پیشہ ورانہ ماہرین کے لیے عالمی ادارہ، کی جانب سے تصدیق کیے جانے کے بعد، سٹی آف برامپٹن کینیڈا میں پہلا ایسا تربیتی اور امتحانی مقام بن گیا ہے جہاں اثاثہ جات کے انتظام کے لیے ISO 55000 کے معیارات کے مطابق بین الاقوامی بہترین طریقہ ہائے کار پر مرکوز تربیتی کورسز پیش کیے جاتے ہیں۔

جیسے اونٹاریو کی میونسپلٹیاں اثاثہ جات کے انتظام کی منصوبہ بندی کے لیے عملے کی قابلیت بڑھا رہی ہے، سنٹر میں پیشکش کردہ تربیت اور رابطے کے مواقع ان کے اثاثہ جات کے انتظام کے علم کو بڑھائیں گے، جبکہ ساتھ ہی انہیں اثاثہ جات کے انتظام کی منصوبہ بندی کے نئے قانون کے تقاضہ جات کو پورا کرنے میں مدد دیں گے۔

تربیتی کورسز پورے کینیڈا کی سرکاری اور نجی شعبے کی تنظیموں سے تعلق رکھنے والے عالمی طور پر تسلیم شدہ تعلیم حاصل کرنے کے خواہشمند امیدواروں کے لیے کھلے ہیں: IAM سرٹیفیکیٹ اور IAM ڈپلومہ۔

آنے والی تربیتی نشستوں اور کورس کی تفصیلات [www.brampton.ca/AMTraining](http://www.brampton.ca/AMTraining) پر دستیاب ہیں۔

### اقتباس:

"کینیڈا کے پہلے عالمی طور پر تسلیم شدہ ایسٹ منیجمنٹ ٹریننگ اینڈ انوویشن سنٹر کا آغاز کرنا سٹی آف برامپٹن کے لیے بڑا سوچنے اور ہمارے شہر کو ایک بڑے جدت کار کے طور پر آگے بڑھانے کے طریقوں میں سے ایک ہے۔ ہمیں اثاثہ جات کے انتظام کے طریقہ کار کو آگے بڑھانے کے لیے AMA اور IAM کے ساتھ شراکت کرنے پر فخر ہے، جو پورے ملک میں میونسپلٹیوں کے لیے اہم ہے۔"

- میئر لنڈا جیفری

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے، ہم نیز نوجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتی، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط

شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں فالو کریں [ٹویٹر](#) اور [فیس بک](#)۔ مزید جاننے کے لیے [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) ملاحظہ فرمائیں۔

**میڈیا کنٹیکٹ**

نتالی سٹوگڈیل

میڈیا کوارڈینیٹر

سٹی آف برامپٹن

[natalie.stogdill@brampton.ca](mailto:natalie.stogdill@brampton.ca) | 905.874.3654